

# M2000

عُيُوبَرَعْلَأ 2

Dansk 8

Deutsch 14

Eesti keel 20

English 26

Español 32

Français 38

Italiano 44

Latviešu valoda 50

Lietuviškai 56

日本語 62

Norsk 68








Suomen kieli 74

Svenska 80

## حالة العملية

العمليات		الإجراءات
	التشغيل/ إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/ إيقاف التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل M2000 وإيقاف تشغيله.
	تنشيط الشاشة	اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل ثم حرره لتنشيط الشاشة.
مؤشرات شحن البطارية		الحالة
	البطارية مشحونة بالكامل.	
	مستوى شحن البطارية منخفض للغاية وسوف يتوقف تشغيل M2000 ما لم يتم توصيل البطارية بالشاحن.	
	إن جهاز M2000 متصل بشاحن تيار متردد ويجري شحنه الآن.	
	إن جهاز M2000 متصل عبر كبل USB ويجري شحنه الآن.	

## مؤشرات الحالة

الشاشة الرئيسية	
قوة إشارة الشبكة	
البيانات المتنقلة بين شبكة المحمول وM2000	
الرسائل غير المقروءة	
شبكة Wi-Fi للجهاز M2000	
الأجهزة المتصلة	
متصل عبر USB	


## نبذة عن M2000 الخاص بك




ملحوظة: تتطور الأجهزة والبرامج باستمرار - والغرض من صور الشاشة والأيقونات التي تراها هنا استخدامها كصور مرجعية فقط.

## تركيب بطاقة SIM


1. قم بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية بعناية.



2. أدخل بطاقة SIM 4FF في فتحة بطاقة SIM الموجودة في تجويف البطارية. يدعم هذا الجهاز بطاقات SIM نانو فقط. إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بالجهاز غير مركبة بالفعل في هذا الجهاز، فاختر بطاقة SIM الصحيحة لهذا الجهاز.



فتحة بطاقة SIM




**مهم:** للحصول على أداء بدون مشاكل، احرص على استخدام الجهاز مع تركيب بطاقة SIM الصحيحة. استخدم دائمًا بطاقة SIM مصنوعة في المصنع متوفرة من مزود الخدمة. احرص على عدم إتلاف بطاقة SIM عند إدخالها أو إخراجها.

## تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز M2000

لتشغيل الجهاز M2000، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ.

ولإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ حتى تُعرض شاشة إيقاف التشغيل. ثم حدد إيقاف التشغيل واضغط على موافق.

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل ثم حرره لتنشيط الشاشة.



زر التشغيل/إيقاف التشغيل

## متطلبات النظام

أي جهاز مزود بإمكانية الاتصال بشبكة Wi-Fi ومتصفح إنترنت. يتوافق جهاز M2000 مع جميع أنظمة التشغيل الرئيسية وأحدث إصدارات المتصفحات.

## البحث عن اسم Wi-Fi وكلمة المرور

اضغط على اسم Wi-Fi/كلمة المرور في الشاشة الرئيسية. سيتم عرض معلومات شبكة M2000 الأساسية. اسحب إلى اليسار للاطلاع على المعلومات الخاصة بشبكة الضيف.

**مهم:** كلمة مرور المسؤول الافتراضية هي نفسها كلمة المرور الافتراضية للشبكة الأساسية. لتغيير أي من كلمتي المرور، قم بتسجيل الدخول إلى موقع مسؤول M2000 (انظر الوصول إلى الإعدادات المتقدمة).

## الاتصال بالإنترنت

على جهازك، افتح قائمة شبكات Wi-Fi المتاحة. حدد شبكة M2000 الأساسية أو شبكة الضيف وأدخل كلمة المرور.

## إدارة شبكات واتصالات Wi-Fi

يحتوي جهاز M2000 الخاص بك على شبكتي Wi-Fi، شبكة أساسية وشبكة ضيف، ويتيح لك توصيل ما يصل إلى 30 جهازًا يدعم الاتصال عبر Wi-Fi. لمزيد من الأمان، شارك شبكة الضيف بدلاً من الشبكة الأساسية.

تكون شبكة الضيف معطلة بشكل افتراضي. ويمكنك تشغيلها إما من M2000 أو موقع المسؤول عن طريق تخصيص نطاق لها في إعدادات Wi-Fi <تحديد النطاق> (انظر الوصول إلى الإعدادات المتقدمة).

## مراقبة استخدام البيانات

يمكنك مراقبة استخدام بيانات M2000 وإعداد تنبيهات مخصصة للاستخدام من خلال حساب الشركة المشغلة لشبكة الجهاز المحمول الخاص بك.

يمكنك أيضًا الاطلاع على تفاصيل الاستخدام الحالية على شاشة M2000 الرئيسية، أو عن طريق النقر فوق رمز استخدام البيانات، أو عن طريق النقر فوق القائمة <استخدام البيانات>.

## الوصول إلى الإعدادات المتقدمة

يمكنك الوصول إلى الإعدادات المتقدمة وإدارة M2000 من موقع المسؤول:

1. قم بتوصيل جهازك الذي يدعم الاتصال عبر Wi-Fi بشبكة M2000 الأساسية (انظر الاتصال بالإنترنت).
2. افتح متصفح ويب على جهازك المتصل وأدخل: <http://My.MiFi> أو <http://192.168.1.1>
3. قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور مسؤول M2000. عند أول استخدام للجهاز M2000، ستكون كلمة المرور هذه هي نفسها كلمة مرور شبكتك الأساسية (انظر البحث عن اسم Wi-Fi وكلمة المرور).


## إعادة تعيين M2000

يمكنك إعادة تعيين M2000 على إعدادات المصنع من M2000 أو من موقع المسؤول.

ملحوظة: سنؤدي إعادة تعيين M2000 إلى فصل الأجهزة وإعادة تعيين أسماء الشبكة وكلمات المرور. لإعادة الضبط من M2000:

1. تأكد أن الجهاز M2000 قيد التشغيل.
2. قم بإزالة غطاء البطارية.
3. أدخل مشبك ورق غير مطوي في فتحة إعادة الضبط واضغط حتى تعرض شاشة M2000 التنبيه "تجري الآن إعادة الضبط".

فتحة إعادة الضبط



إعادة الضبط من موقع المسؤول، انتقل إلى M2000 الإعدادات <النسخ الاحتياطي والاستعادة>.

## الدعم والمزيد

## الحصول على المساعدة في استخدام M2000

استخدم تطبيق المساعدة للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالجهاز M2000.

## المزيد من المعلومات

للوصول إلى دليل المستخدم، تفضل بزيارة

[www.inseego.com/support-documentation/](http://www.inseego.com/support-documentation/)  
أو من موقع مسؤول M2000، حدد صفحة M2000 الرئيسية <المساعدة> صفحة دعم الجهاز ودليل المستخدم.

## خدمة العملاء واستكشاف الأخطاء وحلها

يرجى التواصل مع مزود الخدمة الخاص بك.

## قم بتنصيب تطبيق Inseego Connect

يتيح لك تطبيق Inseego Connect إدارة M2000 بسهولة. امسح رمز الاستجابة السريعة للتنصيب بسهولة من Google Play أو AppStore




## Om din M2000



Berøringsskærm

Til/fra-statusindikator



Tænd/  
sluk-knap

USB-C-port

## Driftsstatus

Drift		Handlinger
	Tænd/sluk	Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder for at tænde og slukke din M2000.
	Vis opvågning	Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at vække displayet.
Indikatorer for batteriopladning		Status
		Batteriet er fuldt opladet.
		Batteriniveauet er kritisk lavt, og M2000 lukkes, medmindre batteriet tilsluttes opladeren.
		M2000 er tilsluttet en AC-oplader og oplader.
		M2000 er tilsluttet via USB og opladning.

## Statusindikatorer


	Startskærm
	Netværkssignalstyrke
	Flytning af data mellem mobilnetværk og M2000
	Ulæste beskeder
	M2000 Wi-Fi-netværk
	Tilsluttede enheder
	USB-forbundet

BEMÆRK: Enheder og software er i konstant udvikling – de skærbilleder og ikoner, du ser her, er kun til reference.


## Opsætning af din M2000

### Installation af et simkort


1. Fjern forsigtigt bagdækslet og batteriet.



2. Sæt et 4FF nano-simkort i simkortholderen i batterirummet. Denne enhed understøtter kun nano-simkort. Hvis enhedens simkort **IKKE** allerede er indsat i denne enhed, skal du vælge det rigtige simkort til denne enhed.



Simkortholder




**Vigtigt:** Hvis du vil have en problemfri oplevelse, skal du sørge for at bruge enheden med den korrekte type simkort. Brug altid et fabriksfremstillet simkort leveret af serviceudbyderen. Pas på ikke at beskadige simkortet, når du isætter eller fjerner det.

### Tænd/sluk for din M2000

For at tænde for din M2000 skal du trykke på **Tænd/sluk**-knappen og holde den nede i tre sekunder.

For at slukke for den skal du trykke på **Tænd/sluk**-knappen og holde den nede i tre sekunder, indtil du ser skærmen slukke. Vælg derefter **Luk ned**, og tryk på **OK**.

Tryk kortvarigt på **Tænd/sluk**-knappen for at tænde displayet.



### Systemkrav

Enhver enhed med Wi-Fi og en internetbrowser. Din M2000 er kompatibel med alle de mest udbredte operativsystemer og de nyeste browserversioner.

### Sådan finder du Wi-Fi-navnet og adgangskoden

Tryk på **Wi-Fi-navn/adgangskode** på **startskærmen**. Oplysningerne om dit primære M2000-netværk vises. Stryg mod venstre for at se oplysninger om dit gæsternetværk.

**Vigtigt:** Administratorens standardadgangskode er den samme som det primære netværks standardadgangskode. For at ændre en af disse adgangskoder skal du logge på admin-webstedet for M2000 (se **Adgang til avancerede indstillinger**).

## Oprettelse af internetforbindelse

Åbn listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk på din enhed. Vælg det primære netværk eller gæsternetværket for M2000, og indtast adgangskoden.

## Håndtering af Wi-Fi-netværk og -forbindelser

Din M2000 har to Wi-Fi-netværk, primær og gæst, og de giver dig mulighed for at oprette op til 30 Wi-Fi-kompatible enheder. For at øge sikkerheden skal du dele dit gæsternetværk i stedet for dit primære netværk.

Gæsternetværket er som standard slukket. Du kan tænde det fra admin-webstedet for M2000 eller ved at tildele det et bånd i **Wi-Fi-indstillinger > Båndvalg** (se Adgang til avancerede indstillinger).

## Overvågning af dataforbrug

Du kan overvåge dataforbruget på din M2000 og indstille brugsadvarsler via din konto hos din udbyder.

Du kan også se aktuelle brugsoplysninger på din M2000s startskærm, eller ved at trykke på **Ikon for dataforbrug**, eller ved at trykke på **Menu > Dataforbrug**.

## Adgang til avancerede indstillinger


Du kan få adgang til avancerede indstillinger og administrere din M2000 fra admin-webstedet:

1. Tilslut din Wi-Fi-kompatible enhed til M2000 primære netværk (se Oprettelse af internetforbindelse).
2. Åbn en webbrowser på din tilsluttede enhed, og indtast: **http://My.MiFi** eller **http://192.168.1.1**.
3. Log ind med admin-adgangskoden til M2000. Når du får din M2000, vil adgangskoden være den samme som dit primære netværks adgangskode (se **Sådan finder du Wi-Fi-navnet og adgangskoden**).

## Nulstilling af din M2000

Du kan nulstille din M2000 til fabriksindstillingerne fra din M2000 eller fra admin-webstedet. BEMÆRK: Hvis du nulstiller din M2000, kobles enheder fra, og netværksnavne og adgangskoder nulstilles. Sådan nulstiller du fra M2000:

1. Sørg for, at din M2000 er tændt.
2. Fjern batteridækslet.
3. Indsæt en udfoldet papirclips i **nulstillingshullet**, og tryk, indtil M2000-skærmen viser **M2000 nulstilles**.



For at nulstille fra Admin-webstedet skal du gå til **M2000-indstillinger > Sikkerhedskopiering og gendannelse**.

## Support m.m.

### Få hjælp til at bruge din M2000

Brug din Hjælp-app til at få hjælp til din M2000.

### Flere oplysninger

For at få adgang til en brugervejledning skal du gå til **www.inseego.com/support-documentation/**. Ellers kan du fra **M2000 Admin-webstedet** vælge **Min M2000-startskærm > Hjælp > Supportside og brugervejledning til enheden**.

### Kundeservice og fejlfinding

Kontakt din serviceudbyder.

### Installér Inseego Connect-appen



Med Inseego Connect-appen kan du nemt styre din M2000. Scan QR-koden for nemt at kunne installere fra AppStore eller Google Play.

## Über Ihren M2000



Touchscreen






Ein-/Aus-Statusanzeige

Ein-/Aus-Taste








USB-C-Anschluss



## Betriebsstatus

Betrieb		Aktionen
	Ein-/Ausschalten	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie sie für 3 Sekunden gedrückt, um den M2000 ein- bzw. auszuschalten.
	Aktivierung Display	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und lassen Sie sie wieder los, um das Display zu aktivieren.
Anzeigen für den Akkuladestand		Status
		Der Akku ist vollständig geladen.
		Der Akku hat einen kritisch niedrigen Ladezustand erreicht und der M2000 schaltet sich ab, wenn der Akku nicht an das Ladegerät angeschlossen wird.
		Der M2000 ist an ein AC-Ladegerät angeschlossen und wird aufgeladen.
		Der M2000 ist über USB angeschlossen und wird aufgeladen.

## Statusindikatoren


	Home
	Netzwerk-Signalstärke
	Datenbewegung zwischen Mobilfunknetz und M2000
	Ungelesene Nachrichten
	M2000-WLAN-Netzwerk
	Verbundene Geräte
	Über USB verbunden



## Ihren M2000 einrichten

### Eine SIM-Karte einsetzen


1. Entfernen Sie vorsichtig die hintere Abdeckung und den Akku.



2. Setzen Sie eine Nano 4FF SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein, der sich im Akkufach befindet. Dieses Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Wenn die SIM-Karte des Gerätes **NOCH NICHT** in das Gerät eingesetzt wurde, wählen Sie die richtige SIM für dieses Gerät aus.



SIM-Kartensteckplatz




**Wichtig:** Um eine problemfreie Leistung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen SIM-Kartentyp für das Gerät verwenden. Verwenden Sie immer eine werksseitig hergestellte SIM-Karte, die vom Dienstanbieter bereitgestellt wird. Achten Sie darauf, die SIM-Karte beim Einsetzen oder Herausnehmen nicht zu beschädigen.

### M2000 ein-/ausschalten

Um den M2000 einzuschalten, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** und halten Sie sie für drei Sekunden gedrückt.

Zum Ausschalten drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** und halten sie für drei Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm für das Ausschalten erscheint. Wählen Sie dann **Herunterfahren** und tippen Sie auf **OK**.

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** und lassen Sie sie wieder los, um das Display zu aktivieren.



### Systemanforderungen

Jedes Gerät mit WLAN-Funktionalität und Internet-Browser. Ihr M2000 ist mit allen gängigen Betriebssystemen und den neuesten Browserversionen kompatibel.

### WLAN-Name und Kennwort suchen

Tippen Sie auf dem **Home-Bildschirm** auf **WLAN-Name/ Kennwort**.

Daraufhin werden die Informationen für Ihr M2000-Primärnetzwerk angezeigt. Wischen Sie nach links, um die Informationen für Ihr Gastnetzwerk zu sehen.

**Wichtig:** Das Standard-Admin-Kennwort entspricht dem Standardkennwort des primären Netzwerks. Wenn Sie eines der beiden Kennwörter ändern möchten, melden Sie sich auf der M2000-Admin-Website an (siehe **Auf erweiterte Einstellungen zugreifen**).

### Eine Verbindung mit dem Internet herstellen

Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke. Wählen Sie das M2000-Primär- oder Gastnetzwerk und geben Sie das Kennwort ein.

### WLAN-Netzwerke und Verbindungen verwalten

Der M2000 verfügt über zwei WLAN-Netzwerke, das primäre und das Gastnetzwerk. Es ist möglich, eine Verbindung mit bis zu 30 WLAN-fähigen Geräten herzustellen. Um ein höheres Sicherheitsniveau zu gewährleisten, sollten Sie nur Ihr Gastnetzwerk und nicht Ihr primäres Netzwerk teilen.

Das Gastnetzwerk ist standardmäßig ausgeschaltet. Sie können es entweder über den M2000 oder die Admin-Website einschalten. Weisen Sie ihm dafür unter **WLAN-Einstellungen > Bandauswahl** ein Band zu (siehe „Auf erweiterte Einstellungen zugreifen“).

### Datennutzung überwachen

Sie können die Datennutzung des M2000 überwachen und Nutzungswarnungen über das Betreiberkonto einrichten.

Sie können auch Details zur aktuellen Nutzung auf Ihrem M2000-Home-Bildschirm sehen. Tippen Sie alternativ auf das Symbol **Datennutzung** oder auf **Menü > Datennutzung**.

### Auf erweiterte Einstellungen zugreifen

Sie können über die Admin-Website auf die erweiterten Einstellungen zugreifen und den M2000 verwalten:

1. Verbinden Sie Ihr WLAN-fähiges Gerät mit dem M2000-Primärnetzwerk (siehe „Eine Verbindung mit dem Internet herstellen“).
2. Öffnen Sie auf dem verbundenen Gerät einen Webbrowser und geben Sie folgende URL ein: <http://My.MiFi> oder <http://192.168.1.1>.
3. Melden Sie sich mit dem M2000-Admin-Kennwort an. Wenn Sie den M2000 zum ersten Mal verwenden, entspricht das Admin-Kennwort dem des primären Netzwerks (siehe **WLAN-Name und Kennwort suchen**).

### Ihren M2000 zurücksetzen

Sie können den M2000 über das Gerät selbst oder von der Admin-Website aus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. **HINWEIS:** Wenn Sie den M2000 zurücksetzen, werden Verbindungen zu anderen Geräten getrennt und Netzwerknamen und Kennwörter zurückgesetzt. So nehmen Sie das Zurücksetzen am M2000 vor:

1. Überprüfen Sie, ob der M2000 eingeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
3. Führen Sie eine aufgefaltete Büroklammer in die **Zurücksetzen-Öffnung** ein und drücken Sie so lange, bis auf dem Bildschirm des M2000 **M2000 wird zurückgesetzt** erscheint.



Um das Gerät über die Admin-Website zurückzusetzen, gehen Sie zu M2000 **Einstellungen > Sichern und Wiederherstellen**.

### Support und mehr

#### Hilfe bei der Benutzung des M2000 anfordern

Verwenden Sie die Hilfe-App, um Unterstützung bei der Verwendung des M2000 zu erhalten.

#### Weitere Informationen

Das Benutzerhandbuch können Sie unter [www.inseego.com/support-documentation/](http://www.inseego.com/support-documentation/) oder über die **M2000-Admin-Website** unter **Mein M2000-Home > Hilfe > Geräte-Supportseite und Benutzerhandbuch** aufrufen.

#### Kundendienst und Fehlerbehebung

Bitte wenden Sie sich an Ihren Service-Provider.

### Installieren Sie die Inseego Connect-App




Über die Inseego Connect-App können Sie Ihren M2000 ganz einfach verwalten. Scannen Sie den QR-Code, um die App ganz einfach über AppStore oder Google Play zu installieren.

## Teave M2000 kohta



Puuteekraan

Sisse-/väljalülitatud oleku näidik



Toitenupp

USB-C port

## Toimingu olek

Toimingud		Tegevused
	Toide sees/väljas	M2000 sisse- ja väljalülitamiseks hoidke toitenuppu kolm sekundit all.
	Kuva äratamine	Kuva äratamiseks vajutage toitenuppu ja vabastage see.
Aku laadimise indikaatorid		Olek
		Aku on täis laetud.
		Aku on kriitiliselt tühi ja M2000 lülitub välja, kui akud ei ühendata laadijaga.
		M2000 on ühendatud vahelduvvoolulaadijaga ja laeb.
		M2000 on ühendatud USB kaudu ja laeb.

## Olekunäidikud


	Avaleht
	Võrgusignaali tugevus
	Andmete liigutamine mobiilsidevõrgu ja M2000 vahel
	Lugemata sõnumid
	M2000 Wi-Fi võrk
	Ühendatud seadmed
	USB kaudu lõastatud

MÄRKUS. Seadmed ja tarkvara arenevad pidevalt – siin kuvatavad ekraanipildid ja ikoonid on ainult viiteks.


## M2000 seadistamine

### SIM-kaardi paigaldamine


1. Eemaldage ettevaatlikult tagakaas ja aku.



2. Sisestage Nano 4FF SIM-kaart akusahtlis olevasse SIM-kaardi pesa. See seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Kui seadme SIM-kaarti **POLE** veel sellesse seadmesse sisestatud, valige selle seadme jaoks õige SIM.



SIM-kaardi pesa




**NB!** Tõrgeteta töötamiseks kasutage kindlasti õiget tüüpi SIM-kaarti. Kasutage alati teenusepakkuja tarnitud tehases valmistatud SIM-kaarti. Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks SIM-kaarti selle sisestamisel või eemaldamisel.

### M2000 sisse-/väljalülitamine

M2000 sisselülitamiseks vajutage ja hoidke **toitenuppu** kolm sekundit all.

Väljalülitamiseks vajutage **toitenupule** ja hoidke seda kolm sekundit all, kuni ilmub toite väljalülitamise ekraan. Seejärel valige **Seiskamine** ja toksake valikul **OK**.

Kuva äratamiseks vajutage **toitenupule** ja vabastage see.



### Süsteeminõuded

Mis tahes Wi-Fi ja veebibrauseriga seade.

Teie M2000 ühildub kõigi peamiste operatsioonisüsteemide ja brauserite uusimate versioonidega.

### Wi-Fi nimi ja parooli leidmine

Toksake **avakuval** valikule **Wi-Fi nimi/parool**. Kuvatakse teie M2000 põhivõrgu teave. Külalisvõrgu teave vaatamiseks nipsake vasakule.

**NB!** Administraatori vaikeparool on sama, mis põhivõrgu vaikeparool. Kummagi parooli muutmiseks logige sisse M2000 administraatori veebisaidile (vt jaotist **Täpsemate sätete avamine**).

## Internetiga ühendamine

Avage seadmes saadaolevate Wi-Fi-võrkude loend. Valige põhivõrk või külalisvõrk M2000 ja sisestage parool.

## Wi-Fi-võrkude ja -ühenduste haldamine

Teie M2000-l on kaks Wi-Fi-võrku, põhivõrk ja külalisvõrk, ning see võimaldab teil ühendada kuni 30 Wi-Fi-võimelist seadet. Turvalisuse suurendamiseks jagage põhivõrgu asemel külalisvõrku.

Külalisvõrk on vaikimisi välja lülitatud. Saate selle sisse lülitada kas M2000 abil või administraatori veebisaidilt, määrates sellele riba jaotises **Wi-Fi seaded > Sagedusriba valimine** (vt jaotist Täpsemate sätete avamine).

## Andmekasutuse jälgimine

Saate jälgida oma M2000 andmekasutust ja seadistada kasutusteatised oma operaatori konto kaudu.

Præguse kasutuse üksikasju saate vaadata ka M2000 avakuval või toksates ikooni **Andmekasutus** või **Menüü > Andmekasutus**.

## Juurdepääs täpsematele sätetele

Saate avada täpsemad sätted ja hallata seadet M2000 administraatori veebisaidi kaudu.

1. Ühendage Wi-Fi-võimelise seade M2000 põhivõrguga (vt Interneti-ühendus).
2. Avage ühendatud seadmes veebibrauser ja sisestage: <http://My.MiFi> või <http://192.168.1.1>.
3. Logige sisse M2000 administraatori parooliga. Kui te saate M2000, on see parool alguses sama, mis teie põhivõrgu parool (vt jaotist **Wi-Fi-nime ja parooli leidmine**).

## M2000 lähtestamine

Saate M2000 tehasesätetele lähtestada, tehes seda M2000 või administraatori veebisaidi kaudu. **MÄRKUS.** M2000 lähtestamine katkestab seadmete ühenduse ning lähtestab võrgunimed ja paroolid. M2000-st lähtestamiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et M2000 oleks sisse lülitatud.
2. Eemaldage akukate.
3. Sisestage lahti painutatud kirjaklamber **lähtestusavasse** ja vajutage, kuni M2000 ekraanile ilmub kiri **M2000 Resetting** (M2000 lähtestamine).



Administraatori veebisaidilt lähtestamiseks valige **M2000 Seadistused > Varundamine ja taastamine**.

## Tugi ja muu

### Abi M2000 kasutamisel

Kasutage M2000 jaoks abi saamiseks rakendust Help (Abi).

### Lisateave

Kasutusjuhendile juurdepääsemiseks avage [www.inseego.com/support-documentation/](http://www.inseego.com/support-documentation/) Või valige **M2000 administraatori veebisaidilt My M2000 Home > Help > Device Support Page & User Guide**.

### Klienditeenindus ja tõrkeotsing

Võtke ühendust teenusepakkujaga.

### Installige rakendus Inseego Connect



Rakendus Inseego Connect võimaldab teil seadet M2000 hõlpsasti hallata. Skannige QR-kood, et see AppStore'ist või Google Playst hõlpsasti installida.

## About your M2000



Touchscreen






On/Off Status Indicator

Power Button








USB-C Port



## Operation status

Operations		Actions
	Power on/off	Press and hold the Power button for 3 seconds to turn your M2000 on and off.
	Display wake-up	Press and release the Power button to wake up the display.
Battery Charge Indicators		Status
		The battery is fully charged.
		The battery is critically low and the M2000 will shut down unless the battery is connected to the charger.
		The M2000 is connected to an AC charger and charging.
		The M2000 is connected via USB and charging.

## Status indicators


	Home
	Network signal strength
	Data moving between mobile network and M2000
	Unread messages
	M2000 Wi-Fi network
	Connected devices
	USB tethered

NOTE: Devices and software are constantly evolving - the screen images and icons you see here are for reference only.


## Setting up your M2000

### Installing a SIM Card


1. Carefully remove the back cover and battery.



2. Insert a Nano 4FF SIM card into the SIM card slot located in the battery compartment. This device supports only Nano SIM cards. If the device SIM is **NOT** already inserted into this device, select the correct SIM for this device.



SIM Card Slot




**Important:** For problem-free performance, make sure to use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the service provider. Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

### Turning your M2000 on/off

To turn your M2000 on, press and hold the **Power** button for three seconds.

To turn it off, press and hold the **Power** button for three seconds until you see the Powering Off screen. Then select **Shutdown** and tap **OK**.

Press and release the **Power** button to wake up the display.



### System requirements

Any device with Wi-Fi capability and an internet browser.

Your M2000 is compatible with all major operating systems and the latest versions of browsers.

### Finding the Wi-Fi name and password

Tap **Wi-Fi Name/Password** on the **Home** screen. The information for your M2000 primary network will be shown. Swipe left to see the info for your guest network.

**Important:** The default Admin password is the same as the primary network's default. To change either password, sign in to the M2000 Admin website (see **Accessing advanced settings**).

## Connecting to the internet

On your device, open the list of available Wi-Fi networks. Select the M2000 primary or guest network and enter the password.

## Managing Wi-Fi networks and connections

Your M2000 has two Wi-Fi networks, primary and guest, and lets you connect up to 30 Wi-Fi capable devices. For added security, share your guest network instead of your primary network.

The guest network is off by default. You can turn it on from either the M2000 or the Admin website by assigning it a band in **Wi-Fi Settings > Band Selection** (see Accessing advanced settings).

## Monitoring data usage

You can monitor your M2000 data usage and set up usage alerts through your carrier account.

You can also see current usage details on your M2000 Home screen, or by tapping the **Data Usage icon**, or by tapping **Menu > Data Usage**.

## Accessing advanced settings

You can access advanced settings and manage your M2000 from the Admin website:


1. Connect your Wi-Fi capable device to the M2000 primary network (see Connecting to the internet).
2. Open a web browser on your connected device and enter: <http://My.MiFi> or <http://192.168.1.1>.
3. Sign in with the M2000 Admin password. When you first get your M2000, this will be the same as your primary network's password (see **Finding the Wi-Fi name and password**).

## Resetting your M2000

You can reset your M2000 to factory settings from the M2000 or from the Admin website.

NOTE: Resetting your M2000 will disconnect devices and reset network names and passwords. To reset from the M2000:

1. Make sure your M2000 is on.
2. Remove the battery cover.
3. Insert an unfolded paper clip into the **Reset hole** and press until the M2000 screen shows **M2000 Resetting**.



To reset from the Admin website, go to **M2000 Settings > Backup and Restore**.

## Support and more

### Get help using your M2000

Use your Help app to get assistance for your M2000.

### More information

To access a User Guide, go to [www.inseego.com/support-documentation/](http://www.inseego.com/support-documentation/) Or, from the **M2000 Admin website**, select **My M2000 Home > Help > Device Support Page & User Guide**.

### Customer service and trouble shooting

Please reach out to your service provider.

## Install the Inseego Connect app

The Inseego Connect app lets you easily manage your M2000. Scan the QR code to easily install from AppStore or Google Play.





## Acerca de M2000



Pantalla táctil






Indicador de estado de Encendido/Apagado

Botón de Encendido








Puerto USB-C



## Estado de la operación

Operaciones		Acciones
	Encendido/ Apagado	Mantenga presionado el botón de Encendido durante 3 segundos para encender y apagar su M2000.
	Activar la pantalla	Para activar la pantalla, presione y suelte el botón de Encendido.
Indicadores de carga de la batería		Estado
		La batería está completamente cargada.
		La batería está muy baja y el M2000 se apagará a menos que conecte la batería al cargador.
		El M2000 está conectado a un cargador de CA y se está cargando.
		El M2000 está conectado por USB y se está cargando.

## Indicadores de estado


	Inicio
	Intensidad de la señal de red
	Datos en movimiento entre la red móvil y M2000
	Mensajes no leídos
	Red wifi M2000
	Dispositivos conectados
	USB conectado

NOTA: Los dispositivos y el software están en constante evolución: las imágenes e iconos de la pantalla que ve aquí son solo de referencia.


## Configuración de M2000

### Instalación de la tarjeta SIM


1. Retire con cuidado la tapa posterior y la batería.



2. Inserte una tarjeta SIM Nano 4FF en la ranura para tarjetas SIM ubicada en el compartimiento de la batería. Este dispositivo solo admite tarjetas Nano SIM. Si **NO** ha introducido todavía la SIM en este dispositivo, seleccione la SIM correcta para este.



Ranura para tarjetas SIM




**Importante:** Para un mejor rendimiento, asegúrese de usar el dispositivo con la tarjeta SIM apropiada. Utilice siempre una tarjeta SIM de fábrica suministrada por el proveedor de servicios. Tenga cuidado de no dañar la tarjeta SIM cuando la inserte o retire.

### Encendido/Apagado de M2000

Para encender el M2000, mantenga presionado el botón de **Encendido** durante tres segundos.

Para apagarlo, mantenga presionado el botón de **Apagado** durante tres segundos hasta que vea la pantalla de apagado. A continuación, seleccione **Apagar** y toque **Aceptar**.

Presione y suelte el botón de **Encendido** para activar la pantalla.



### Requisitos del sistema

Cualquier dispositivo con wifi y navegador de internet.

El M2000 es compatible con todos los sistemas operativos principales y las últimas versiones de navegadores.

### Buscar el nombre y la contraseña de wifi

Pulse **Nombre de wifi/Contraseña** en la pantalla de **Inicio**.

Le aparecerá la información para su red primaria de M2000. Deslice hacia la izquierda para ver la información de su red de invitados.

**Importante:** La contraseña de administrador predeterminada es la misma que la predeterminada de la red primaria. Para cambiar cualquiera de las contraseñas, inicie sesión en el sitio web de administración de M2000 (consulte **Acceder a la configuración avanzada**).

## Conectarse a internet

En su dispositivo, abra la lista de redes wifi disponibles. Seleccione la red primaria o de invitados de M2000 e introduzca la contraseña.

## Gestión de redes y conexiones wifi

Su M2000 tiene dos redes wifi, primaria y de invitados, y le permite conectar hasta 30 dispositivos con wifi. Para mayor seguridad, comparta su red de invitados en lugar de su red primaria.

La red de invitados está desactivada de manera predeterminada. Puede activarla desde el sitio web de M2000 o desde el Administrador asignándole una banda en **Configuración de wifi> Selección de banda** (consulte **Acceso a la configuración avanzada**).

## Control del uso de datos

Puede controlar el uso de datos de M2000 y configurar alertas de uso a través de su cuenta de operador.

También puede ver los detalles del uso actual en la pantalla de inicio de M2000 o a través del **Icono de uso de datos** o **Menú> Uso de datos**.

## Acceso a la configuración avanzada

Puede acceder a la configuración avanzada y administrar M2000 desde el sitio web de administración:


1. Conecte su dispositivo con wifi a la red primaria de M2000 (consulte **Conexión a Internet**).
2. Abra un navegador web en su dispositivo conectado y escriba:  
**http://My.MiFi** o **http://192.168.1.1**.
3. Inicie sesión con la contraseña de administrador de M2000. Cuando adquiera el M2000 por primera vez, será la misma que la contraseña de su red primaria (consulte **Buscar el nombre y la contraseña de wifi**).

## Reinicio de M2000

Puede restablecer el M2000 a la configuración predeterminada desde el M2000 o desde el sitio web de administración.

NOTA: Al restablecer el M2000 se desconectarán los dispositivos y se restablecerán los nombres de red y las contraseñas. Para restablecer desde el M2000:

1. Asegúrese de que el M2000 está encendido.
2. Extraiga la tapa de la batería.
3. Inserte un clip desplegado en el orificio de **Reinicio** y presione hasta que la pantalla del M2000 muestre **Reiniciando M2000**.



Para reiniciar desde el sitio web de administración, vaya a **M2000 Configuración> Copia de seguridad y restauración**.

## Soporte y más

### Obtenga ayuda para usar el M2000

Use su aplicación de Ayuda para obtener asistencia para el M2000.

### Más información

Para acceder a la Guía del usuario, vaya a **www.insego.com/support-documentation/** o, desde el **Sitio web de administración de M2000**, seleccione **Inicio de mi M2000> Ayuda> Página de soporte del dispositivo y Guía del usuario**.

### Servicio de atención al cliente y solución de problemas

Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

### Instale la aplicación Insego Connect




La aplicación Insego Connect le permite gestionar fácilmente su M2000. Escanee el código QR para instalarlo fácilmente desde la AppStore o Google Play.

## À propos de votre M2000



Écran tactile

Indicateur d'état Marche/Arrêt



Bouton de mise en marche

Port USB-C

REMARQUE : Les appareils et les logiciels sont en constante évolution. Les images sur l'écran et les icônes que vous voyez ici sont données uniquement à titre de référence.

## État d'avancement de l'opération

Opérations		Actions
	Marche/arrêt	Appuyez et maintenez le bouton de mise en marche pendant 3 secondes pour allumer et éteindre votre M2000.
	Sortie de veille de l'écran	Appuyez et relâchez le bouton de mise en marche pour sortir l'écran du mode veille.
Indicateurs de charge de la batterie		État
		La batterie est complètement chargée.
		La batterie est dangereusement basse et le M2000 s'éteindra si la batterie n'est pas connectée au chargeur.
		Le M2000 est connecté à un chargeur CA et est en cours de chargement.
		Le M2000 est connecté par USB et est en cours de chargement.


## Indicateurs d'état

	Accueil
	Puissance du signal du réseau
	Données circulant entre le réseau mobile et le M2000
	Messages non lus
	Réseau Wi-Fi du M2000
	Dispositifs connectés
	Connecté par USB


## Configuration de votre M2000

### Installer une carte SIM


1. Retirez soigneusement le compartiment arrière et la batterie.



2. Insérez une carte SIM Nano 4FF dans le logement pour carte SIM situé dans le compartiment de la batterie. Cet appareil ne prend en charge que les cartes SIM Nano. Si la carte SIM de l'appareil n'est **PAS** déjà insérée dans cet appareil, sélectionnez la bonne carte SIM pour cet appareil.



Logement pour carte SIM




**Important :** Veillez à utiliser le bon type de carte SIM afin de ne pas rencontrer de problèmes pour faire fonctionner l'appareil. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée en usine et fournie par le fournisseur de services. Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.

### Allumer/arrêter votre M2000

Pour allumer votre M2000, appuyez sur le bouton de **mise en marche** et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.

Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton de **mise en marche** et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran Arrêt en cours s'affiche. Sélectionnez ensuite l'**arrêt** et appuyez sur **OK**.

Appuyez et relâchez le bouton de **mise en marche** pour sortir l'écran du mode veille.



Bouton de mise en marche

### Configuration minimale du système

Tout appareil doté d'une fonction Wi-Fi et d'un navigateur Internet.

Votre M2000 est compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation et les dernières versions des navigateurs.

### Trouver le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi

Appuyez sur **Nom/Mot de passe du réseau Wi-Fi** sur l'écran d'**accueil**. Les informations relatives à votre réseau principal pour le M2000 seront affichées. Faites défiler vers la gauche pour voir les informations concernant votre réseau invité.

**Important :** Le mot de passe administrateur par défaut est le même que celui du réseau principal. Pour changer l'un ou l'autre des mots de passe, connectez-vous au site web administrateur M2000 (consultez la section **Accéder aux paramètres avancés**).

## Connexion à Internet

Sur votre appareil, ouvrez la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez le réseau principal ou le réseau invité du M2000 et saisissez le mot de passe.

## Gérer les réseaux et connexions Wi-Fi

Votre M2000 dispose de deux réseaux Wi-Fi, un réseau principal et un réseau invité, et vous permet de connecter jusqu'à 30 appareils disposant d'un accès Wi-Fi. Pour plus de sécurité, partagez votre réseau invité au lieu de votre réseau principal.

Le réseau invité est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer depuis le M2000 ou le site web administrateur en lui attribuant une bande dans **Paramètres Wi-Fi > Sélection de bande** (consultez la section **Accéder aux paramètres avancés**).

## Surveiller la consommation de données des données

Vous pouvez surveiller la consommation de vos données M2000 et mettre en place des alertes d'utilisation à partir de votre compte d'opérateur.

Vous pouvez également voir les détails de la consommation actuelle sur votre écran d'accueil M2000, ou en appuyant sur l'icône **Consommation de données**, ou en appuyant sur **Menu > Consommation de données**.

## Accéder aux paramètres avancés

Vous pouvez accéder aux paramètres avancés et gérer votre M2000 depuis le site web administrateur :


1. Connectez votre appareil disposant d'un accès Wi-Fi au réseau principal M2000 (voir **Connexion à Internet**).
2. Ouvrez un navigateur web sur votre appareil connecté et saisissez : **http://My.MiFi** ou **http://192.168.1.1**.
3. Connectez-vous avec le mot de passe administrateur du M2000. Lorsque vous recevrez votre M2000 pour la première fois, ce mot de passe sera le même que celui de votre réseau principal (voir **Trouver le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi**).

## Réinitialiser votre M2000

Vous pouvez réinitialiser votre M2000 sur les paramètres d'usine à partir du M2000 ou du site web administrateur. **REMARQUE** : La réinitialisation de votre M2000 déconnectera les appareils et réinitialisera les noms et mots de passe des réseaux. Pour réinitialiser le M2000 :

1. Assurez-vous que votre M2000 est allumé.
2. Retirez le couvercle de la batterie.
3. Insérez un trombone déplié dans l'orifice de **réinitialisation** et appuyez jusqu'à ce que l'écran M2000 affiche **Réinitialisation du M2000**.

Orifice de réinitialisation



Pour réinitialiser à partir du site web administrateur, allez dans **Paramètres > Sauvegarde et restauration**.

## Assistance et plus

### Obtenez de l'aide pour utiliser votre M2000

Utilisez votre application Aide pour obtenir de l'aide avec votre M2000.

### Plus d'informations

Pour accéder à un guide de l'utilisateur, rendez-vous sur **www.inseego.com/support-documentation/** ou, sur le **site web administrateur M2000**, sélectionnez **Mon M2000 - Accueil > Aide > Page d'assistance et guide de l'utilisateur de l'appareil**.

### Service clientèle et dépannage

Veillez contacter votre fournisseur de services.

### Installer l'application Inseego Connect



L'application Inseego Connect vous permet de gérer facilement votre M2000. Scannez le code QR pour l'installer facilement depuis l'AppStore ou Google Play.

## Informazioni sul tuo M2000



Touch screen

Indicatore di stato acceso/spento

Tasto di accensione




Porta USB-C



## Stato operativo

Operazioni		Azioni
	Accensione/ spegnimento	Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per accendere e spegnere M2000.
	Attivazione display	Premere e rilasciare il tasto di accensione per riattivare il display.
Indicatori di carica della batteria		Stato
		La batteria è completamente carica.
		La batteria è quasi completamente scarica e M2000 si spegnerà se la batteria non viene collegata al caricabatteria.
		M2000 è collegato a un caricabatteria CA ed è in carica.
		M2000 è collegato tramite USB ed è in carica.

## Indicatori di stato


	Casa
	Potenza del segnale di rete
	Trasferimento dei dati tra la rete mobile e M2000
	Messaggi non letti
	Rete Wi-Fi M2000
	Dispositivi collegati
	USB in tethering

NOTA: Dispositivi e software sono in continua evoluzione: le immagini e le icone dello schermo che appaiono qui sono solo per riferimento.


## Configurazione di M2000

### Installazione di una scheda SIM


1. Rimuovere con cautela il coperchio posteriore e la batteria.



2. Inserire una scheda SIM Nano 4FF nell'apposito alloggiamento situato nel vano della batteria. Questo dispositivo supporta solo schede Nano SIM. Se la SIM del dispositivo **NON** è già inserita nel dispositivo, selezionare la SIM corretta da inserire.



Alloggiamento per schede SIM



**Importante:** Per prestazioni senza problemi, assicurarsi di utilizzare il dispositivo con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM prodotta in fabbrica, fornita dal provider del servizio. Fare attenzione a non danneggiare la scheda SIM quando viene inserita o rimossa.

### Accensione/spengimento di M2000

Per accendere M2000, tenere premuto il tasto di **Accensione** per tre secondi.

Per spegnerlo, tenere premuto il tasto di **Accensione** per tre secondi, fino a quando non viene visualizzata la schermata di spegnimento. Quindi selezionare **Spegni** e toccare **OK**.

Premere e rilasciare il tasto di **Accensione** per riattivare il display.



### Requisiti del sistema

Qualsiasi dispositivo con funzionalità Wi-Fi e un browser Internet.

M2000 è compatibile con tutti i principali sistemi operativi e le ultime versioni dei browser.

### Ricerca del nome e della password Wi-Fi

Toccare **Nome/password Wi-Fi** nella schermata **Home**. Verranno visualizzate le informazioni della rete principale M2000. Scorrere verso sinistra per visualizzare le informazioni della rete ospite.

**Importante:** La password predefinita dell'amministratore è quella predefinita della rete principale. Per modificare una delle password, accedere al sito Web di amministrazione M2000 (vedere **Accesso alle impostazioni avanzate**).



## Connessione a Internet

Sul dispositivo, aprire l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili. Selezionare la rete M2000 principale o ospite e immettere la password.

## Gestione delle reti e delle connessioni Wi-Fi

M2000 ha due reti Wi-Fi, principale e ospite, e consente di connettere fino a 30 dispositivi Wi-Fi. Per maggiore sicurezza, condividere la rete ospite anziché la rete principale.

La rete ospite è disattivata per impostazione predefinita. È possibile attivarla accenderlo dal sito Web M2000 o dal sito Web Admin assegnandole una banda in **Impostazioni Wi-Fi > Selezione banda** (vedere Accesso alle impostazioni avanzate).

## Monitoraggio dell'utilizzo dei dati

È possibile monitorare l'utilizzo dei dati in M2000 e impostare avvisi relativi all'utilizzo attraverso l'account del gestore telefonico.

È anche possibile vedere i dettagli dell'uso corrente nella schermata Home di M2000 o toccando l'**icona Utilizzo dati**, o toccando **Menu > Utilizzo dati**.

## Accesso alle impostazioni avanzate

Dal sito Web di amministrazione è possibile accedere alle impostazioni avanzate e gestire M2000:

1. Collegare il dispositivo Wi-Fi alla Rete principale M2000 (consultare Connessione a Internet).
2. Aprire un browser Web sul dispositivo connesso e immettere:  
**http://My.MiFi** o **http://192.168.1.1**.
3. Accedere con la password dell'amministratore di M2000. Quando si utilizza M2000 per la prima volta, questa coinciderà con la password della rete principale (vedere **Ricerca del nome e della password Wi-Fi**).


## Reimpostazione di M2000

È possibile reimpostare le impostazioni di fabbrica di M2000 dallo stesso M2000 o dal sito Web di amministrazione.

NOTA: La reimpostazione di M2000 comporta la disconnessione dei dispositivi e il ripristino dei nomi di rete e delle password. Per eseguire la reimpostazione da M2000:

1. Assicurarsi che M2000 sia acceso.
2. Rimuovere il coperchio della batteria.
3. Inserire un fermaglio aperto nel foro **Reset** e premere fino a quando la schermata di M2000 non indica che la reimpostazione di **M2000** è in corso.

Foro di reimpostazione



Per eseguire la reimpostazione dal sito Web di amministrazione, andare su **M2000 Impostazioni > Backup e ripristino**.

## Assistenza e altro

### Assistenza sull'uso di M2000

Per ricevere assistenza su M2000, usare l'app Help.

### Ulteriori informazioni

Per aprire la Guida per l'utente, accedere a **www.inseego.com/support-documentation/** Oppure, dal **Sito Web di amministrazione di M2000**, Selezionare **Home Il Mio M2000 > Guida > Pagina di assistenza del dispositivo e guida per l'utente**.

### Assistenza clienti e risoluzione dei problemi

Contattare il fornitore del servizio.

## Installare l'app Inseego Connect



L'app Inseego Connect consente di gestire facilmente M2000. Scansionare il codice QR per installarla facilmente da AppStore o da Google Play.

## Par M2000



Skārienekrāns

Ieslēgšanas/izslēgšanas statusa indikators

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

USB-C ports



## Operācijas statuss

Operācijas		Darbības
	Ieslēgšana/izslēgšana	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu un izslēgtu M2000.
	Ekrāna aktivizēšana	Nospiediet un atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai aktivizētu ekrānu.
Akumulatora uzlādes indikatori		Statuss
		Akumulators ir pilnībā uzlādēts.
		Akumulatora uzlādes līmenis ir kritiski zems, un M2000 izslēgsies, ja akumulators nebūs pievienots lādētājam.
		Ierīce M2000 ir savienota ar maiņstrāvas lādētāju, un notiek tās uzlāde.
		Ierīce M2000 ir savienota, izmantojot USB, un notiek tās uzlāde.

## Statusa indikatori


	Sākums
	Tikla signāla stiprums
	Datu pārvietošana starp mobilo tīklu un M2000
	Nelasīti ziņojumi
	M2000 Wi-Fi tīkls
	Pievienotās ierīces
	Piesaistīts USB

PIEZĪME: ierīces un programmatūra nepārraukti attīstās — šeit redzami ekrāna attēli un ikonas ir paredzētas tikai uzziņai.


## M2000 uzstādīšana

### SIM kartes uzstādīšana


1. Uzmanīgi noņemiet aizmugurējo vāku un izņemiet akumulatoru.



2. Ievietojiet Nano 4FF SIM karti SIM kartes slotā, kas atrodas akumulatora nodalījumā. Šī ierīce atbalsta tikai nano SIM kartes. Ja SIM karte vēl **NAV** ievietota ierīcē, atlasiet šai ierīcei atbilstošo SIM karti.



SIM kartes slots




**Svarīgi!** Lai nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, pārliecinieties, ka ierīcē tiek lietota pareizā veida SIM karte. Vienmēr izmantojiet rūpnīcā izgatavotu SIM karti, ko piegādājis pakalpojumu sniedzējs. Uzmanieties, lai nesabojātu SIM karti, kad ievietojat vai izņemat to.

### M2000 ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu M2000, trīs sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu.

Lai izslēgtu M2000, trīs sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, līdz parādās ieslēgšanas ekrāns. Pēc tam atlasiet **Izslēgt** un pieskarieties **OK (Labi)**.

Nospiediet un atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai aktivizētu ekrānu.



ieslēgšanas/izslēgšanas poga

### Sistēmas prasības

Jebkura ierīce ar Wi-Fi funkciju un interneta pārlūkprogramma.

Ierīce M2000 ir saderīga ar visām galvenajām operētājsistēmām un jaunākajām pārlūkprogrammu versijām.

### Wi-Fi nosaukuma un paroles atrašana

Sākuma ekrānā pieskarieties vienumam **Wi-Fi nosaukums/parole**.

Parādīsies informācija par M2000 primāro tīklu. Pavelciet pa kreisi, lai skatītu informāciju par viesu tīklu.

**Svarīgi!** Noklusējuma administratora parole ir tāda pati kā primārā tīkla noklusējuma parole. Lai mainītu paroli, pierakstieties M2000 administratora tīmekļa vietnē (skatiet sadaļu **Pieklūve papildu iestatījumiem**).

## Interneta savienojuma izveide

Ierīcē atveriet pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu. Atlasiet M2000 primāro vai viesu tīklu un ievadiet paroli.

## Wi-Fi tīklu un savienojumu pārvaldība

Ierīcē M2000 ir divi Wi-Fi tīkli — primārais un viesu —, un tas ļauj izveidot savienojumu ar līdz pat 30 ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi. Lai nodrošinātu papildu drošību, koplietojiet viesu tīklu, nevis primāro tīklu.

Viesu tīkls pēc noklusējuma ir izslēgts. To var ieslēgt ierīcē M2000 vai administratora vietnē, piešķirot joslū sadaļā **Wi-Fi iestatījumi > Joslas atlase** (skatiet sadaļu **Pieklūve papildu iestatījumiem**).

## Datu lietojuma uzraudzība

Varat uzraudzīt M2000 datu lietojumu un iestatīt brīdinājumus par lietojumu, izmantojot operatora kontu.

Varat arī skatīt informāciju par pašreizējo lietojumu M2000 sākuma ekrānā, pieskaroties ikonai **Datu lietojums** vai vienumam **Izvēlne > Datu lietojums**.

## Pieklūve papildu iestatījumiem

Varat piekļūt papildu iestatījumiem un pārvaldīt M2000 no administratora tīmekļa vietnes:

1. Savienojiet ar Wi-Fi saderīgu ierīci ar M2000 primāro tīklu (skatiet sadaļu **Savienojuma izveide ar internetu**).
2. Pievienotajā ierīcē atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un ievadiet: **http://My.MiFi** vai **http://192.168.1.1**.
3. Pierakstieties, izmantojot M2000 administratora paroli. Kad saņemsiet ierīci M2000, tās parole būs tāda pati kā primārā tīkla parole (skatiet sadaļu **Wi-Fi nosaukuma un paroles atrašana**).


## M2000 atiestatīšana

M2000 var atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem no M2000 vai administratora tīmekļa vietnes.

**PIEZĪME:** atiestatot M2000, tiks atvienotas ierīces un atiestatīti tīkla nosaukumi un paroles. Lai atiestatītu no M2000:

1. Pārļiecinieties, ka ierīce M2000 ir ieslēgta.
2. Noņemiet akumulatora vāciņu.
3. Ievietojiet atlocītu papīra saspraudi **atiestatīšanas** atverē un nospiediet, līdz M2000 ekrānā parādās **M2000 Resetting (M2000 atiestatīšana)**.

Atiestatīt caurumu



Lai atiestatītu no administratora tīmekļa vietnes, dodieties uz **M2000 iestatījumi > Dublēšana un atjaunošana**.

## Atbalsts un citas iespējas

### Palīdzības saņemšana saistībā ar M2000 lietošanu

Izmantojiet palīdzības lietotni, lai saņemtu palīdzību saistībā ar M2000.

### Vairāk informācijas

Lai piekļūtu lietotāja rokasgrāmatai, dodieties uz vietni **www.inseego.com/support-documentation/** vai **M2000 administratora vietnē atlasiet My M2000 Home > Help > DeviceSupport Page & User Guide (Mans M2000 sākums > Palīdzība > Ierīces atbalsta lapa un lietotāja rokasgrāmata)**.

### Klientu apkalpošana un problēmu novēršana

Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

### Lietotnes Inseego Connect instalēšana



Lietotne Inseego Connect ļauj ērti pārvaldīt M2000. Skenējiet QR kodu, lai viegli veiktu instalāciju no pakalpojuma AppStore vai Google Play.

## Apie M2000



Jutiklinis ekranas

Įjungimo / išjungimo būsenos indikatorius

Maitinimo mygtukas

USB-C prievadas



## Operacijos būseną

Operacijos		Veiksmai
	Maitinimo įjungimas / išjungimas	Norėdami įjungti ir išjungti M2000, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką.
	Ekrano pažadinimas	Ekranui pažadinti paspauskite ir atleiskite maitinimo mygtuką.
Baterijos įkrovos indikatorius		Būseną
		Baterija visiškai įkrauta.
		Baterijos įkrova kritiškai žema, M2000 išsijungs, jei baterija nebus prijungta prie įkroviklio.
		M2000 prijungtas prie kintamosios srovės įkroviklio ir yra įkraunamas.
		M2000 yra prijungtas per USB ir įkraunamas.

## Būsenos indikatorius


	Pradžios puslapis
	Tinklo signalo stiprumas
	Duomenų perkėlimas iš judriojo ryšio tinklo į M2000
	Neskaitytos žinutės
	M2000 „Wi-Fi“ tinklas
	Prijungti įrenginiai
	USB susietas

PASTABA. Įrenginiai ir programinė įranga nuolat tobulinami, todėl čia matomi ekrano vaizdai ir piktogramos yra tik informacinio pobūdžio.


## M2000 nustatymas

### SIM kortelės įdėjimas


1. Atsargiai atskirkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.



2. Į SIM kortelės lizdą, esantį baterijos skyriuje, įdėkite „Nano 4FF“ SIM kortelę. Šis prietaisas palaiko tik „Nano SIM“ korteles. Jei į šį prietaisą dar **NĖRA** įdėta prietaiso SIM kortelė, pasirinkite šiam prietaisui tinkamą SIM kortelę.



SIM kortelės lizdas




**Svarbu:** kad įrenginys veiktų sklandžiai, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo tipo SIM kortelę. Visada naudokite gamykloje pagamintą SIM kortelę, kurią tiekia paslauga teikėjas. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte SIM kortelės ją dėdami arba išimdami.

### M2000 įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti M2000, paspauskite ir tris sekundes palaikykite **maitinimo** mygtuką.

Norėdami jį išjungti, tris sekundes palaikykite paspaudę **maitinimo** mygtuką, kol pamatysite maitinimo išjungimo ekraną. Tada pasirinkite **„Shutdown“ (išjungti)** ir bakstelėkite **„OK“ (gerai)**.

Ekranui pažadinti paspauskite ir atleiskite **maitinimo** mygtuką.



Maitinimo mygtukas

### Sistemos reikalavimai

Bet koks prietaisas su „Wi-Fi“ funkcija ir interneto naršykle.

M2000 yra suderinamas su visomis pagrindinėmis operacinėmis sistemomis ir naujausiomis naršyklių versijomis.

### „Wi-Fi“ pavadinimo ir slaptažodžio suradimas

Pradžios ekrane bakstelėkite **„Wi-Fi“ pavadinimas / slaptažodis**“.

Bus rodoma informacija apie pirminį M2000 tinklą. Braukite kairėn, kad pamatytumėte svečio tinklo informaciją.

**Svarbu:** numatytasis administratoriaus slaptažodis yra toks pat kaip pagrindinio tinklo numatytasis slaptažodis. Norėdami pakeisti bet kurį slaptažodį, prisijunkite prie M2000 administratoriaus svetainės (žr. „Išplėstinių nuostatų prieiga“).

## Prisijungimas prie interneto

Prietaise atverkite galimų „Wi-Fi“ tinklų sąrašą. Pasirinkite M2000 pirminį arba svečio tinklą ir įveskite slaptažodį.

## „Wi-Fi“ tinklų ir ryšių valdymas

Jūsų M2000 turi du „Wi-Fi“ tinklus – pirminį ir svečio – ir leidžia prijungti iki 30 „Wi-Fi“ palaikančių prietaisų. Norėdami užtikrinti didesnę saugą, bendrinkite svečio tinklą, o ne pagrindinį.

Pagal numatytąsias nuostatas svečio tinklas yra išjungtas. Jį galite įjungti M2000 arba administratoriaus svetainėje, priskirdami jam juostą „Wi-Fi“ nuostatos“ > „Juostos pasirinkimas“ (žr. „Prieiga prie išplėstinių nuostatų“).

## Duomenų naudojimo stebėjimas

Galite stebėti M2000 duomenų naudojimą ir per savo operatoriaus paskyrą nustatyti naudojimo įspėjimus.

Pagrindiniame M2000 ekrane taip pat galite matyti dabartinio naudojimo informaciją arba galite bakstelėti **duomenų naudojimo piktogramą** ar „Meniu“ > „Duomenų naudojimas“.

## Prieiga prie išplėstinių nuostatų

Pasiekti išplėstines nuostatas ir valdyti M2000 galite iš administratoriaus svetainės.

1. Prijunkite „Wi-Fi“ palaikantį prietaisą prie M2000 pagrindinio tinklo (žr. „Prisijungimas prie interneto“).
2. Prijungtame prietaise atidarykite interneto naršyklę ir įveskite <http://My.MiFi> arba <http://192.168.1.1>.
3. Prisijunkite naudodami M2000 administratoriaus slaptažodį. Pirmą kartą naudojant M2000, slaptažodis bus toks pats kaip ir jūsų pagrindinio tinklo slaptažodis (žr. „Wi-Fi“ pavadinimo ir slaptažodžio suradimas“).


## M2000 nustatymas iš naujo

M2000 gamyklines nuostatas galite atkurti per M2000 arba iš administratoriaus svetainės.

PASTABA. Nustačius M2000 iš naujo, prietaisai bus atjungti, o tinklo pavadinimai ir slaptažodžiai nustatyti iš naujo. Norėdami nustatyti iš naujo per M2000:

1. Įsitikinkite, kad M2000 yra įjungtas.
2. Atskirkite baterijos dangtelį.
3. Į **nustatymo iš naujo** angą įkiškite sąvaržėlę ir spauskite, kol M2000 ekrane pasirodys užrašas „M2000 Resetting“ (M2000 nustatomas iš naujo).

Atkūrimo anga



Norėdami iš naujo nustatyti iš administratoriaus svetainės, eikite į M2000 „Nuostatos“ > „Atsarginė kopija ir atkūrimas“.

## Pagalba ir kita

### Kreipkitės pagalbos dėl M2000 naudojimo

Norėdami gauti pagalbos dėl M2000 naudojimo, pasinaudokite pagalbos programa.

### Daugiau informacijos

Norėdami pasiekti naudotojo vadovą, eikite [www.inseego.com/support-documentation/](http://www.inseego.com/support-documentation/) arba **M2000 administratoriaus svetainėje** pasirinkite „My M2000 Home“ > „Help“ > „Device Support Page & User Guide“ (Mano M2000 pradžios puslapis > Pagalba > Įrenginio pagalbos puslapis ir naudotojo vadovas).

### Klientų aptarnavimas ir trikčių šalinimas

Kreipkitės į paslaugų teikėją.

### Įdiekite „Inseego Connect“ programą

Programėlė „Inseego Connect“ leis lengvai valdyti M2000. Nuskaitykite QR kodą, kad galėtumėte lengvai įdiegti programėlę iš „AppStore“ arba „Google Play“.



## M2000について




タッチスクリーン

オン/オフステータス  
インジケータ

電源ボタン USB-Cポート










## 動作ステータス

操作		アクション
	電源 オン/オフ	電源ボタンを3秒間押し続けて、M2000の電源をオンまたはオフにします。
	ディスプレ イを起動	電源ボタンを押して放し、ディスプレ イを起動させます。

バッテリー充電 インジケータ	ステータス
	バッテリーは完全に充電されています。
	バッテリー残量が非常に少なく、M2000バッテリーを充電器に接続しないとシャットダウンします。
	M2000はAC充電器に接続して充電されています。
	M2000はUSB経由で接続され、充電されています。

## ステータスインジケータ

	ホーム
	ネットワーク信号強度
	モバイルネットワークとM2000間を移動するデータ
	未読メッセージ
	M2000 Wi-Fiネットワーク
	接続されているデバイス
	USBテザリング


注意：デバイスとソフトウェアは常に進化しています。  
ここに表示されている画面イメージとアイコンは参照用です。




## M2000のセットアップ

### SIMカードの取り付け


1. 背面カバーとバッテリーを慎重に取り外します。



2. Nano 4FF SIMカードをバッテリーコンパートメントのSIMカードスロットに挿入します。このデバイスは、Nano SIMカードのみをサポートしています。デバイスのSIMがすでにこのデバイスに挿入されていない場合、このデバイスに適切なSIMを使用してください。



SIMカードスロット




**重要：**問題のないパフォーマンスを得るには、デバイスで正しいタイプのSIMカードが使用されていることを確認してください。常にサービスプロバイダーから提供された、純正のSIMカードを使用してください。SIMカードを挿入または取り外すときに、SIMカードを損傷しないように注意してください。

### M2000の電源をオン/オフする

M2000の電源をオンにするには、電源ボタンを3秒間押します。

オフにするには、電源オフ画面が表示されるまで電源ボタンを3秒間押し続けます。次に、シャットダウンを選択して、OKをタップします。

電源ボタンを押して放し、ディスプレイを起動させます。



電源スイッチ

### システム要件

Wi-Fi機能とインターネットブラウザを備えたすべてのデバイス。

M2000は、すべての主要なオペレーティングシステムと最新バージョンのブラウザと互換性があります。

### Wi-Fi名とパスワードの確認

Home画面のWi-Fi名/パスワードをタップします。M2000プライマリネットワークの情報が表示されます。左にスワイプしてゲストネットワークの情報を確認します。

**重要：**デフォルトの管理者パスワードは、プライマリネットワークのデフォルトと同じです。いずれかのパスワードを変更するには、M2000管理Webサイトにサインインします（「詳細設定へのアクセス」を参照）。

## インターネットに接続するには

デバイスで、利用可能なWi-Fiネットワークのリストを開きます。M2000プライマリまたはゲストネットワークを選択し、パスワードを入力します。

## Wi-Fiネットワークと接続の管理

M2000には、プライマリとゲストの2つのWiFiネットワークがあり、最大30のWi-Fi対応デバイスに接続できます。セキュリティを強化するには、プライマリネットワークではなくゲストネットワークを共有してください。

ゲストネットワークはデフォルトでオフになっています。**Wi-Fi 設定 > 帯域選択**（詳細設定へのアクセスを参照）で帯域を指定することで、M2000または管理Webサイトのいずれかからオンにできます。

## データ使用の監視

M2000データの使用状況を監視し、キャリアアカウントを通じて使用状況アラートを設定できます。

データ使用量アイコンをタップするか、メニュー > データ使用量をタップすることで、M2000のホーム画面で現在の使用量を確認することもできます。

## 詳細設定へのアクセス


詳細設定にアクセスし、管理WebサイトからM2000を管理できます。

1. Wi-Fi対応デバイスをM2000プライマリネットワークに接続します（インターネットへの接続を参照）。
2. 接続されたデバイスでWebブラウザを開き、次のように入力します。<http://My.MiFi> または <http://192.168.1.1>。
3. M2000管理者パスワードでサインインします。M2000を最初に入手したときには、プライマリネットワークのパスワードと同じになっています（「Wi-Fi名とパスワードの確認」を参照）。

## M2000のリセット

M2000上で、または管理WebサイトからM2000を工場出荷時の設定にリセットできます。  
注意：M2000をリセットすると、デバイスが切断され、ネットワーク名とパスワードがリセットされます。M2000上でリセットするには：

1. M2000がオンになっていることを確認します。
2. バッテリーカバーを取り外します。
3. ペーパークリップを開いて、その先端をリセット穴に挿入して、M2000画面に**M2000リセット**が表示されるまで押します。



管理Webサイトからリセットするには、M2000の**設定 > バックアップと復元**を選択します。

## サポート関連情報

**M2000の使用に関するヘルプ**をご利用ください。ヘルプアプリを使用して、M2000のサポートを受けてください。

### 詳細情報

ユーザーガイドは、[www.inseego.com/support-documentation/](http://www.inseego.com/support-documentation/) にアクセスしてください。または、**M2000管理Webサイト**から **My M2000 ホーム > ヘルプ > デバイスサポートページ**と**ユーザーガイド**を選択します。

**カスタマーサービスとトラブルシューティング**  
サービスプロバイダーにお問い合わせください。

**Inseego Connectアプリをインストールしてください**

Inseego Connectアプリを使用すると、簡単にM2000を管理できます。QRコードをスキャンして、AppStoreまたはGoogle Playから簡単にインストールできます。




## Om M2000



Berøringsskjerm






Statusindikator for på/av










Strømknapp

USB-C-port

## Driftsstatus

Drift		Handlinger
	Slå av/på	Trykk og hold strømknappen nede i tre sekunder for å slå M2000 av og på.
	Vis vekking	Trykk og slipp strømknappen for å vekke skjermen.
Indikatorer for batteriladning		Status
		Batteriet er fulladet.
		Batteriet har kritisk lavt nivå og M2000 vil slå seg av med mindre batteriet kobles til laderen.
		M2000 er koblet til en AC-lader og lader.
		M2000 er tilkoblet via USB og lader.

## Statusindikatorer


	Startskjerm
	Nettverkssignalstyrke
	Data som flytter mellom mobilnett og M2000
	Uleste meldinger
	M2000 Wi-Fi-nettverk
	Tilkoblede enheter
	USB-bundet

MERK: Enheter og programvare utvikler seg kontinuerlig – skjermbildene og ikonene du ser her er kun til referanse.


## Sette opp M2000

### Installere et SIM-kort


1. Fjern bakdekselet og batteriet forsiktig.



2. Sett inn et Nano 4FF SIM-kort i SIM-kortsporet i batterirommet. Denne enheten støtter bare Nano SIM-kort. Hvis enhetens SIM **IKKE** allerede er satt inn i denne enheten, velg riktig SIM for enheten.



SIM-kortspor




**Viktig:** For problemfri ytelse må du bruke enheten med riktig type SIM-kort. Bruk alltid et fabrikkprodusert SIM-kort levert av tjenesteleverandøren. Vær forsiktig så du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller fjerner det.

### Slå M2000 på/av

For å slå på M2000 må du trykke og holde nede **strømknappen** i tre sekunder.

For å slå den av må du trykke og hold nede **strømknappen** i tre sekunder til du ser skjermen for å skru av. Velg deretter **Skru av** og trykk på **OK**.

Trykk og slipp **strømknappen** for å vekke skjermen.



### Systemkrav

Enhver enhet med wifi og en nettleser.

M2000 er kompatibel med alle større operativsystemer og de nyeste versjonene av nettlelere.

### Finne Wi-Fi-navn og -passord

Trykk på **Wi-Fi-navn/-passord** på **Startskjermen**. Informasjonen for M2000-primærnettverket vises. Sveip mot venstre for å se informasjonen for gjestenettverket ditt.

**Viktig:** Standard administratorpassord er det samme som det primære nettverkets standard. Hvis du vil endre begge passordene, logger du på M2000 administratort nettstedet (se **Få tilgang til avanserte innstillinger**).

## Koble til internett

Åpne listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på enheten din. Velg M2000 primær- eller gjestenettverk og skriv inn passordet.

## Administrere Wi-Fi-nettverk og -tilkoblinger

M2000 har to Wi-Fi-nettverk, primær og gjest, og lar deg koble til opptil 30 Wi-Fi-kompatible enheter. For økt sikkerhet kan du dele gjestenettverket ditt i stedet for det primære nettverket.

Gjestenettverket er som standard av. Du kan slå den på fra M2000 eller administratornettstedet ved å tildele det et bånd i **Wi-Fi-innstillinger > Båndvalg** (se Få tilgang til avanserte innstillinger).

## Overvåking av databruk

Du kan overvåke M2000-databruken og konfigurere bruksvarsler gjennom transportkontoen din.

Du kan også se gjeldende bruksdetaljer på M2000-startskjermen, eller ved å trykke på **ikonet for databruk**, eller ved å trykke på **Meny > Databruk**.

## Få tilgang til avanserte innstillinger

Du kan få tilgang til avanserte innstillinger og administrere M2000 fra administratornettstedet:


1. Koble din Wi-Fi-kompatible enhet til M2000-primærnettverket (se Koble til internett).
2. Åpne en nettleser på den tilkoblede enheten din, og skriv inn: **http://My.MiFi** or **http://192.168.1.1**.
3. Logg på med M2000-administratorpassordet. Når du først får M2000 vil dette være det samme som passordet til det primære nettverket (se **Finne Wi-Fi-navn og -passord**).

## Tilbakestille M2000

Du kan tilbakestille M2000 til fabrikkinnstillinger fra M2000 eller fra administratornettstedet.

MERK: Å tilbakestille M2000 vil koble fra enheter og tilbakestille nettverksnavn og passord. Slik tilbakestiller du fra M2000:

1. Forsikre deg om at M2000 er på.
2. Fjern batteridekselet.
3. Stikk en utfoldet binders inn i hullet for **Tilbakestilling** og trykk til skjermen for M2000 viser **M2000 Tilbakestilling**.



For å tilbakestille fra administratornettstedet går du til M2000 **Innstillinger > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting**.

## Kundestøtte og mer

### Få hjelp med å bruke M2000

Bruk Hjelp-appen for å få hjelp til M2000.


### Mer informasjon

For tilgang til en brukerhåndbok går du til **www.inseego.com/support-documentation/** eller, fra **M2000-administratornettstedet**, velg **Mitt M2000-hjem > Hjelp > Hjelpeside for enhet og brukerhåndbok**.

### Kundestøtte og feilsøking

Ta kontakt med tjenesteleverandøren.

### Installer Inseego Connect-appen

 Inseego Connect-appen lar deg enkelt administrere M2000. Skann QR-koden for enkelt å installere fra AppStore eller Google Play.

## Tietoja M2000:sta



Kosketusnäyttö






Päällä-/pois-tilaimaisin

Virtapainike








USB-C-portti



## Toimintatila

Toiminnot		Toimenpiteet
	Virta päälle/ pois	Kytke M2000:n virta päälle tai pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia.
	Näytön aktivointi	Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta hetken ajan.
Akun varaustason ilmaisimet		Tila
		Akku on ladattu täyteen.
		Akun varaus on kriittisen matala, ja M2000 sammuu, ellei akkua liitetä laturiin.
		M2000 on liitetty vaihtovirtalaturiin, ja se latautuu.
		M2000 on liitetty USB-liitännän kautta, ja se latautuu.

## Tilan ilmaisimet


	Koti
	Verkkosignaalin voimakkuus
	Mobiiliverkon ja M2000:n välillä siirretään tietoa
	Lukemattomat viestit
	M2000:n Wi-Fi-verkko
	Yhdistetyt laitteet
	USB-yhteys muodostettu

HUOMAUTUS: Laitteet ja ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti – tässä näkyvät näyttökuvat ja kuvakkeet ovat vain viitteellisiä.


## M2000:n käyttöönotto

### SIM-kortin asentaminen


1. Irrota takakansi ja akku varovasti.



2. Aseta Nano 4FF -SIM-kortti akkukotelossa olevaan SIM-korttipaikkaan. Tämä laite tukee vain nano-SIM-kortteja. Jos laitteen SIM-korttia **EI** ole vielä asetettu tähän laitteeseen, valitse tälle laitteelle sopiva SIM-kortti.



SIM-korttipaikka




**Tärkeää:** Jotta laite toimisi ongelmitta, varmista, että käytät oikeantyyppistä SIM-korttia. Käytä aina palveluntarjoajan valmistamaa SIM-korttia. Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat sen paikoilleen tai poistat sen.

### M2000:n kytkeminen päälle / pois päältä

Kytke M2000 päälle pitämällä **virtapainiketta** painettuna kolmen sekunnin ajan.

Katkaise virta laitteesta pitämällä **virtapainiketta** painettuna kolmen sekunnin ajan, kunnes virrankatkaisunäyttö tulee näkyviin. Valitse sitten **Shutdown** (Katkaise virta) ja napauta **OK**.

Aktivoi näyttö painamalla **Virta**-painiketta hetken ajan.



### Järjestelmävaatimukset

Mikä tahansa laite, jossa on Internet-selain ja jolla voidaan käyttää Wi-Fi-yhteyttä.

M2000 on yhteensopiva kaikkien tärkeimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimpien versioiden kanssa.

### Wi-Fi-nimen ja -salasanan löytäminen

Napauta **Wi-Fi Name/Password** (Wi-Fi-nimi/-salasana) **kotinäytössä**.

Ensisijaisen M2000-verkon tiedot tulevat näkyviin. Katso vierasverkon tiedot pyyhkäisemällä vasemmalle.

**Tärkeää:** Ylläpitäjän oletussalasana on sama kuin ensisijaisen verkon oletussalasana. Voit vaihtaa jommankumman salasanan kirjautumalla sisään M2000:n ylläpitäjän sivustolle (katso **Lisäasetusten käyttäminen**).

## Internet-yhteyden muodostaminen

Avaa laitteessasi käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelo. Valitse M2000:n ensisijainen verkko tai vierasverkko ja syötä salasana.

## Wi-Fi-verkkojen ja -yhteyksien hallinta

M2000:ssa on kaksi Wi-Fi-verkkoa, ensisijainen verkko ja vierasverkko, ja voit yhdistää jopa 30 Wi-Fi-yhteydellä varustettua laitetta M2000:n avulla. Voit lisätä turvallisuutta jakamalla vierasverkon ensisijaisen verkon sijaan.

Vierasverkko on oletuksena pois päältä. Voit kytkeä sen päälle joko M2000:n tai ylläpitäjän sivustolta määrittämällä sille taajuusalueen kohdassa **Wi-Fi Settings > Band Selection** (Wi-Fi-asetukset > Kaistanvalinta) (katso Lisäasetusten käyttäminen).

## Datan käytön seuranta

Voit seurata M2000:n datan käyttöä ja asettaa käyttöhälytyksiä operaattoritilisi kautta.

Näet nykyisen käytön tiedot myös M2000:n kotinäytöstä tai napauttamalla **Datan käyttö -kuvaketta** tai napauttamalla **Menu > Data Usage** (Valikko > Datan käyttö).

## Lisäasetusten käyttäminen

Voit käyttää lisäasetuksia ja hallita M2000:ta ylläpitäjän sivustolta:


1. Kytke Wi-Fi-yhteydellä varustettu laitteesi M2000:n ensisijaiseen verkkoon (katso Internet-yhteyden muodostaminen).
2. Avaa verkkoselain liitetyllä laitteellasi ja syötä: **http://My.MiFi** tai **http://192.168.1.1**.
3. Kirjautu sisään M2000:n ylläpitäjän salasanalla. Kun käytät M2000:ta ensimmäistä kertaa, salasana on sama kuin ensisijaisen verkkosi salasana (katso **Wi-Fi-nimen ja salasanan löytäminen**).

## M2000:n nollaaminen

Voit nollata M2000:n tehdasasetuksiin M2000:sta tai ylläpitäjän sivustolta.

HUOMAUTUS: M2000:n nollaaminen katkaisee yhteyden laitteisiin ja nollaa verkon nimet ja salasانات. Nollaaminen M2000:sta:

1. Varmista, että M2000 on päällä.
2. Irrota akun kansi.
3. Paina auki taitetulla paperiliittimellä **Reset** (Nollaus) -aukkoa, kunnes M2000:n näytössä näkyy **M2000 Resetting** (M2000:ta nollataan).



Voit tehdä nollauksen ylläpitäjän sivustolta siirtymällä M2000:n kohtaan **Settings > Backup and Restore** (Asetukset > Varmuuskopiointi ja palautus).

## Tuki ja muut

### M2000:n käyttöä koskevien ohjeiden hankkiminen

Katso M2000:n käyttöohjeet Help (Ohje) -sovelluksesta.

### Lisätietoja

Pääset käyttöoppaaseen siirtymällä osoitteeseen **www.inseego.com/support-documentation/** Voit myös valita **M2000:n ylläpitäjän sivustolta kohdan My M2000 Home > Help > Device Support Page & User Guide** (Oma M2000-aloitussivu > Ohje > Laitetukisivu ja käyttöopas).

### Asiakaspalvelu ja vianetsintä

Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

### Asenna Inseego Connect -sovellus



Inseego Connect -sovelluksen avulla voit hallita M2000:ta helposti. Voit asentaa sen helposti AppStoresta tai Google Playsta skannaamalla QR-koodin.



## Om din M2000








Pekskärm

På/Av statusindikator








Power Button    USB-C-port



## Driftstatus

Operationer		Handlingar
	Power on/off	Tryck och håll in Power Button i 3 sekunder för att slå på eller stänga av din M2000.
	Display wake-up	Tryck och släpp Power Button för att väcka skärmen.
Indikatorer för batteriladdning		Status
		Batteriet är fulladdat.
		Batteriet är kritiskt lågt och M2000 stängs av såvida inte batteriet är anslutet till laddaren.
		Denna M2000 är ansluten till en AC-laddare och laddar.
		Denna M2000 är ansluten via USB och laddar.

## Statusindikatorer


	Hem
	Nätverkssignalstyrka
	Data som rör sig mellan mobilnätet och M2000
	Olästa meddelanden
	M2000 Wi-Fi-nätverk
	Anslutna enheter
	USB-kopplad

OBS: Enheter och programvara utvecklas ständigt – skärmbilderna och ikonerna du ser här är endast för referens.


## Ställa in din M2000

### Installera ett SIM-kort


1. Ta försiktigt bort luckan och batteriet.



2. Sätt i ett Nano 4FF SIM-kort i SIM-kortplatsen i batterifacket. Den här enheten stöder endast Nano SIM-kort. Om enhetens SIM **INTE** redan är insatt i den här enheten, välj rätt SIM för den här enheten.



SIM-kortplats




**Viktigt:** För problemfri prestanda, se till att använda enheten med rätt typ av SIM-kort. Använd alltid ett fabriksstillverkat SIM-kort som levereras av tjänsteleverantören. Var försiktig så att du inte skadar SIM-kortet när du sätter i eller tar bort det.

### Slå på/stäng av din M2000

För att slå på din M2000, tryck och håll ned **Power Button** i tre sekunder.

För att stänga av den, tryck och håll ned **Power Button** i tre sekunder tills du ser Avstängningsskärmen. Välj sedan **Select Shutdown** och tryck på **OK**.

Tryck och släpp **Power Button** för att väcka skärmen.



### Systemkrav

Alla enheter med Wi-Fi-kapacitet och en webbläsare.

Din M2000 är kompatibel med alla större operativsystem och de senaste versionerna av webbläsare.

### Finding the Wi-Fi name and password

Tryck in **Wi-Fi Name/Password** på **Home screen**. Informationen för ditt M2000-primära nätverk visas. Svep åt vänster för att se informationen för ditt gästnätverk.

**Viktigt:** Det förinställda administratörlösenordet är detsamma som det som är förinställt för det primära nätverket. Om du vill ändra något lösenord loggar du in på M2000 Admin-webbplatsen (se **Få åtkomst till avancerade inställningar**).

## Ansluta till internet

Öppna listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk på din enhet. Välj M2000 primär- eller gästnätverk och ange lösenordet.

## Hantera Wi-Fi-nätverk och anslutningar

Din M2000 har två Wi-Fi-nätverk, primär och gäst, och låter dig ansluta upp till 30 Wi-Fi-enheter. För ytterligare säkerhet, dela ditt gästnätverk istället för ditt primära nätverk.

Gästnätverket är inaktiverat som standard. Du kan slå på det från antingen M2000 eller Admin-webbplatsen genom att tilldela det ett band i **Wi-Fi Settings > Band Selection** (se Öppna avancerade inställningar).

## Övervakning av Data Usage

Du kan övervaka din M2000 Data Usage och ställa in användarvarningar via ditt leverantörskonto.

Du kan också se aktuell användningsinformation på din M2000 Home screen eller genom att trycka på **Ikon för Data Usage**, eller genom att gå till **Meny > Data Usage**.

## Få åtkomst till avancerade inställningar


Du kan komma åt avancerade inställningar och hantera din M2000 från Admin-webbplatsen:

1. Anslut din Wi-Fi-kompatibla enhet till M2000 primärt nätverk (se Ansluta till internet).
2. Öppna en webbläsare på din anslutna enhet och ange: <http://My.MiFi> eller <http://192.168.1.1>.
3. Logga in med M2000 Admin-lösenordet. När du först får din M2000 kommer detta att vara detsamma som ditt primära nätverks lösenord (se **Finding the Wi-Fi name and password**).

## Återställ din M2000

Du kan återställa M2000 till fabriksinställningar från M2000 eller från administratörswebbplatsen. OBS: Om du återställer din M2000 kopplar du bort enheterna och återställer nätverksnamn och lösenord. Så här återställer du från M2000:

1. Se till att din M2000 är på.
2. Ta bort batterilocket.
3. Sätt i en bred pappersklämma i **Återställningshålet** och tryck tills M2000 skärmen visar **M2000 Återställning**.



För att återställa från Admin-webbplatsen, gå till M2000 **Settings > Backup and Restore**.

## Support och mer

### Få hjälp med att använda din M2000

Använd din Hjälp-app för att få hjälp för din M2000.

### Mer information

Gå till en användarhandbok [www.inseego.com/support-documentation/](http://www.inseego.com/support-documentation/) Eller från **M2000 Admin-webbplats**, välj **Mitt M2000 Hem > Hjälp > Enhetsupportsida och användarguide**.

### Kundtjänst och felsökning

Vänligen kontakta din tjänsteleverantör.

## Installera appen Inseego Connect



Inseego Connect-appen låter dig enkelt hantera din M2000. Skanna QR-koden för att enkelt installera från AppStore eller Google Play.